



کمیونٹی کو محفوظ رکھنے کے لیے، سٹی اپنے ڈرائیو وے پر کام کے قواعد میں سختی لا رہا ہے

برامپٹن، آن (27 اپریل 2021) – سٹی آف برامپٹن نے پرائیویٹ پراپرٹیز پر ڈرائیو وے پیونگ کا کام کرنے والے ٹھیکیداروں کے لیے قواعد کو سخت بنا دیا ہے، تاکہ گھروں اور کمیونٹی کو محفوظ تر بنایا جا سکے۔

اس سال سے ایک نیا کام یہ ہو گا کہ ٹھیکیداروں اور ڈرائیو وے سیلرز کو لائسنس جاری کرنے سے پہلے انہیں سٹی کی جانب سے ایک آن لائن ٹریننگ مکمل کرنی ہو گی۔ ٹھیکیداروں کے لیے اب سیکورٹی ڈیپازٹ کی شرط بھی لازمی قرار دے دی گئی ہے۔ لائسنس کے اجراء اور / یا تجدید نو سے پہلے ان شرائط کو پورا کرنے سے ڈرائیو ویز پر غیر قانونی تعمیرات میں کمی لانے میں خاطر خواہ مدد ملے گی۔

جب گھر پر ٹھہرنے کا صوبائی حکم ختم ہو جائے گا، تو بائی لاء اینڈ انفورسمنٹ سروسز کا عملہ ڈرائیو ویز پر کی جانے والی ایسی نصیحتات اور توسیعات پر تفتیش دوبارہ جاری رکھے گا جو سٹی کے مختلف ضمنی قوانین کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتیں۔

ایسے رہائشی جو اپنی پارکنگ کی جگہ میں اضافے کے لیے اپنی ڈرائیو وے کو چوڑا کرانا چاہتے ہوں، پیونگ کے لیے پتھر ڈلوانا چاہتے ہوں یا اپنی ڈرائیو وے کو دوبارہ سیل کرانا چاہتے ہوں، انہیں درج ذیل مفید مشوروں کو اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے:

- یہ پڑتال کر لیں کہ آیا ان کا ٹھیکیدار سٹی آف برامپٹن کی جانب سے منظور شدہ ہے یا نہیں لائسنس یافتہ ٹھیکیداروں کی ایک فہرست یہاں آن لائن دستیاب ہے۔
- DIY پروجیکٹس کے حوالے سے، سٹی سے ڈرائیو وے کی زیادہ سے زیادہ منظور شدہ چوڑائی کی تصدیق کر لیں اور یہ کہ آیا انہیں کرب کٹ پرمٹ کی ضرورت ہے یا نہیں۔
- ڈرائیو وے پیونگ کے دوران تربیت یافتہ شخص کا موقع پر موجود ہونا لازمی ہے۔

ٹھیکیدار اور مالک، دونوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ تعمیرات سٹی کے ضمنی قوانین کے مطابق اور منظور شدہ ہونی چاہیں۔

مزید معلومات کے لیے، ملاحظہ کریں: www.brampton.ca/drivewaypaving